

66605 - کیا مؤذن پہلے افطاری کرے یا کہ اذان کہے ؟

سوال

مؤذن افطاری کب کرے گا، اذان سے قبل یا کہ بعد میں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

روزے دار کی افطاری میں اصل یہ ہے کہ غروب شمس کے بعد اور رات آ جانے کے وقت افطاری ہو؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور تم کھاؤ پیئو حتیٰ کہ رات کے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگہ واضح ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو البقرة (187).

طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

قوله تعالى: " پھر رات تک روزہ پورا کرو "

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی حد بیان کی ہے کہ روزے کا آخری وقت رات کا آنا ہے، جس طرح کہ افطاری اور کھانے پینے اور جماع اور روزے کی ابتدا کی حد دن کا شروع اور رات کا آخری حصہ ہے۔

چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رات کو روزہ نہیں، جس طرح روزے کے دنوں میں دن کو افطار نہیں ہے "انتہی

دیکھیں: تفسیر الطبری (3 / 532).

اور روزے دار کے لیے روزہ جلد افطار کرنا سنت ہے۔

سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے ان میں خیر رہے گی "

صحیح بخاری حدیث نمبر (1856) صحیح مسلم حدیث نمبر (1098)

ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

" سنت یہ ہے کہ افطاری جلدی کی جائے، اور سحری میں تاخیر، جلدی یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے فوراً بعد افطاری کر لی جائے اور کسی ایک لیے جائز نہیں کہ اسے شك ہو آیا سورج غروب ہوا ہے یا نہیں اور وہ افطاری کر لے، کیونکہ فرض جب یقین کے ساتھ لازم آتا ہے تو وہ اس سے نکلا بھی یقین کے ساتھ ہی جائیگا " انتہی دیکھیں: التمهید (97 / 21 - 98) .

اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں:

" اس میں غروب شمس کا یقین ہو جانے پر افطاری جلد کرنے پر ابھارا گیا ہے .

اور اس کا معنی یہ ہوا کہ امت کے معاملات منظم رہیں گے تو ان میں خیر ہے، جب تک وہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کاربند رہیں گے " انتہی

دیکھیں: الشرح المسلم للنووی (208 / 7) .

اور رہا مؤذن کا مسئلہ تو اگر کوئی شخص اس کی اذان کا انتظار کر رہا ہو تا کہ وہ افطاری کرے، تو پھر اسے اذان دینے میں جلدی کرنی چاہیے، حتیٰ کہ ان کی افطاری میں تاخیر کا باعث نہ بنے، اور اس میں سنت کی مخالفت بھی ہے "

لیکن اگر وہ کوئی قلیل سے چیز کے ساتھ مثلاً پانی کا ایک گھونٹ پی کر افطاری کر لے جو تاخیر کا باعث نہ بنے تو اس میں کوئی حرج نہیں .

اور اگر کوئی بھی مؤذن کی اذان کا انتظار نہ کرتا ہو، مثلاً کوئی صرف اپنے لیے اذان کہے (جیسا کہ کوئی شخص صحراء میں اکیلا ہو) یا پھر قریبی حاضر لوگوں کے لیے اذان کہے:

(مثلاً مسافروں کی جماعت) تو اذان سے قبل افطاری کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی افطاری کریں گے، اگرچہ وہ اذان نہ بھی کہے، اور وہ اس کی اذان کا انتظار نہ کر رہے ہوں .

واللہ اعلم .